



# Prophet Ibrahim and his Struggle

## His amazing life as mentioned in Al-Quran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AaBaqarah 02:258

*Ibrahim challenges a king*

کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اسکے رب کے بارے میں کہ عطا کی تھی اس کو اللہ نے سلطنت۔ جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وہ بولا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے تو بیشک اللہ نکالتا ہے سورج کو مشرق سے تو نکال دے تو اسے مغرب سے۔ تو مہبوت ہو گیا وہ جس نے کفر کیا تھا۔ اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ



AaBaqarah 02:260

*Ibrahim's quest of life after death*

اور جب کہا ابراہیم نے میرے رب دکھا مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو۔ فرمایا اس نے اور کیا نہیں ایمان لایا تو۔ کہا اس نے کیوں نہیں لیکن یہ کہ اطمینان ہو جائے میرے دل کو۔ فرمایا اس نے پس پکڑ لے چار پرندے پھر مانوس کر لے انکو اپنے سے پھر رکھ دے ہر ایک پہاڑ پر ان کا ایک ایک نکلدا پھر پکار ان کو چلے آئیں گے وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ اور جان رکھ بیشک اللہ غالب ہے

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

**AaBaqarah 02:124** Ibrahim is tested by Allah several times

اور جب آزمایا ابراہیم کو اسکے رب نے چند باتوں سے تو اس نے پوری کر دیں وہ۔ فرمایا بیشک میں بناؤں گا تجھ کو لوگوں کا پیشوا۔ کہا اس نے اور میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔

وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

**Ibrahim 14:37** Ibrahim is commanded to leave his family in a desert

ہمارے رب بیشک میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو ایک وادی میں جہاں کھیتی نہیں تیرے گھر کے نزدیک جو عزت والا ہے۔ ہمارے رب تاکہ یہ قائم کریں نماز سو کر دے تو دلوں کو لوگوں کے مائل انکی طرف اور رزق دے انہیں پھلوں میں سے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۖ رَبَّنَا لِيقِينُوا الصَّلَاةَ فَأَجْعَلْ آفِئَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ۚ وَ ارزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

**Houd 11:69-76** Ibrahim is informed of the destruction of his nephew's town

اور بیشک آنے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر تو کہا انہوں نے سلام۔ کہا اس نے سلام۔ پھر نہ دیر کی اس نے کہ لے آیا ایک بچھڑا بھنا ہوا۔

وَ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا ۗ قَالَ سَلٰمْ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِئِدٍ ﴿٦٩﴾

پھر جب دیکھا اس نے کہ انکے ہاتھ نہیں بڑھتے اس کی طرف تو ڈرا ان سے اور محسوس کیا ان سے خوف۔ کہا انہوں نے کہ نہ خوف کر یقیناً ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ ۚ وَ أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۗ قَالُوا لَا تَخَفْ ۗ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾

پھر جب جاتا رہا ابراہیم سے خوف اور مل گئی اسکو خوشخبری تو جھگڑنا شروع کیا اس نے ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَ جَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧١﴾

اے ابراہیم جانے دو اس بات کو۔ یقیناً اچکا ہے علم تیرے رب کا۔ اور یقیناً آنے والا ہے ان پر عذاب جو نہیں ٹلنے والا۔

يَا بُرْهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اِنَّهٗ قَدْ جَاءَ اَمْرٌ رَبِّكَ وَ اِنَّهُمْ اَتَيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ﴿٧٦﴾

### AlAnaaam 06:74-79 Ibrahim's struggle of his people worshipping heavenly objects

اور جب کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کیا بنانا ہے تو بتوں کو معبود۔ بیشک میں دیکھتا ہوں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں۔

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اَزْرًا اتَّخِذْ اَصْنَامًا اِلٰهَةً اِنِّيْ اَرٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٦﴾

اور اسی طرح دکھانے لگے ہم ابراہیم کو عجائبات آسمانوں اور زمین کے اور تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں۔

وَ كَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُؤَقِنِيْنَ ﴿٧٧﴾

پھر جب چھاگئی اس پر رات (کی تاریکی) تو دیکھا اس نے ایک ستارہ۔ کہا اس نے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا نہیں پسند کرتا میں ڈوب جانے والوں کو۔

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَا كَوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْٓ ؕ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَا اِحْبُ الْاَفْلٰكِيْنَ ﴿٧٨﴾

پھر جب دیکھا اس نے چاند کو چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اگر نہ ہدایت دے مجھے میرا رب تو یقیناً میں ہو جاؤں گا ان لوگوں میں جو بھٹک رہے ہیں۔

فَلَمَّا رَا الْقَمَرَ بٰزِرًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْٓ ؕ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَیْنٌ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَآ كُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضّٰلِّيْنَ ﴿٧٩﴾

پھر جب دیکھا اس نے سورج کو روشن تو کہا یہ میرا رب ہے یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم بیشک میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم (اللہ کا) شریک بناتے ہو۔

فَلَمَّا رَا الشَّمْسَ بٰزِرَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْٓ هٰذَا اَكْبَرُ فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تَشْرِكُوْنَ ﴿٨٠﴾

بیشک میں نے کر لیا اپنا رخ اسی ذات کی طرف جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو یکسو ہو کر اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حٰنِفًا وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨١﴾



**Mary 19:41-47 Ibrahim's effort to invite his father to believe in One God**

اور ذکر کر اس کتاب میں ابراہیم کا۔ بیشک وہ تمہا نہایت سچا نبی۔

وَ اذْكَرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٤١﴾

جب کہا اس نے اپنے باپ سے اے میرے باپ کیوں پوجتا ہے تو ایسی چیزوں کو جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ کام آسکیں تیرے کچھ بھی۔

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَّ لَا يُبْصِرُ وَّ لَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤٢﴾

اے میرے باپ یقیناً میرے پاس آیا ہے ایسا علم جو نہیں ملا تجھ کو تو پیروی کر میری۔ میں لے چلوں گا تجھ کو سیدھی راہ پر۔

يَا بَتِ اِنِّيْ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٣﴾

اے میرے باپ نہ پوجا کر شیطان کی۔ بیشک شیطان ہے رحمن کا بڑا نافرمان۔

يَا بَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿٤٤﴾

اے میرے باپ یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ آپکو تھے کو عذاب رحمن کی طرف سے تو ہو جائے تو شیطان کا ساتھی۔

يَا بَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾

اس نے کہا کیا پھر گیا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم۔ اگر نہ تو باز آنے گا تو میں ضرور سنگسار کر دوں گا تجھے۔ اور دور ہو جا تو مجھ سے ہمیشہ کے لئے۔

قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنِ الْهٖتٰى يٰ اِبْرٰهِيْمُ ۗ لَنْ لَّمْ تَنْتَهٗ لَآرْجَمَنَّكَ وَاَهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ﴿٤٦﴾

کہا اس نے سلام ہو تجھ پر۔ ابھی بخشش مانگوں گا میں تیرے لئے اپنے رب سے۔ بیشک وہ ہے مجھ پر نہایت مہربان۔

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۗ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ﴿٤٧﴾

**AlAnbia 21:51-69 Ibrahim's struggle with his idol worshipping people**

اور بیشک ہم نے دی تھی ابراہیم کو ہدایت اس سے پہلے اور ہم تھے اسکو جاننے والے۔

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ مُرْشَدًا ۚ مِنْ قَبْلُ وَاكْمَلْنَا بِيْهِ عِلْمِيْنَ ﴿٥١﴾

جب کہا اس نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے  
کیسی ہیں یہ مورتیں وہ تم جنکی (پرستش پر) جمے ہوئے ہو۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلَ الَّتِي  
أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ ﴿٥٧﴾

وہ کہنے لگے کہ پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو انکی  
عبادت کرتے ہوئے۔

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ﴿٥٨﴾

کہا اس نے یقیناً تم ہو۔ تم اور تمہارے باپ دادا۔ کھلی  
گمراہی میں پڑے ہوئے۔

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

وہ بولے کیا تم لائے ہو حق یا تم مذاق کرنے والوں میں ہو۔

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ ﴿٦٠﴾

کہا اس نے نہیں بلکہ تمہارا رب رب ہے آسمانوں اور  
زمین کا وہ جس نے انکو پیدا کیا ہے۔ اور میں اس پر شہادت  
دینے والوں میں ہوں۔

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي  
فَطَّرَهُنَّ ۗ وَآنَا عَلَىٰ ذِكْمٍ مِّنَ الشُّهَدَائِينَ ﴿٦١﴾

اور اللہ کی قسم میں ضرور ایک چال چلوں گا تمہارے بتوں  
کے ساتھ اسکے بعد کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیر کر۔

وَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا  
مُدْبِرِينَ ﴿٦٢﴾

پھر کر ڈالا اس نے انکو ریزہ ریزہ سوانے انکے بڑے کے  
شاید کہ وہ اسکی طرف رجوع کریں۔

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ  
يَرْجِعُونَ ﴿٦٣﴾

کہنے لگے جس نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ۔  
یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآهِتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ  
الظَّالِمِينَ ﴿٦٤﴾

انہوں نے کہا کہ سنا ہے ہم نے ایک جوان کو انکا ذکر کرتے  
ہوئے کہتے ہیں اسے ابراہیم۔

قَالُوا سَمِعْنَا فَتَىٰ يَدُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦٥﴾

وہ بولے کہ لاؤ اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تاکہ وہ گواہ  
ریں۔

قَالُوا فَاتُّوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَشْهَدُونَ ﴿٦٦﴾

قَالُوا ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِأَهْتِنَا يَا بَرَهَيْمُ ۗ

انہوں نے کہا کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ابراہیم۔

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ۗ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ۗ

اس نے کہا بلکہ کیا ہو گا یہ ان کے اس بڑے نے۔ تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہوں۔

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ۗ

پھر پلٹے وہ اپنے دلوں کی طرف تو کہنے لگے بیشک تم ہی ظالم ہو۔

ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ۗ

پھر اوندھے کئے اپنے سروں پر۔ یقیناً تو جانتا ہے نہیں یہ کچھ بولتے۔

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۗ

اس نے کہا کیا پھر پوجتے ہو تم اللہ کے سوا ان کو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکیں کچھ بھی اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں۔

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ

تف ہے تم پر اور جنکو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا۔ تو کیا نہیں تم عقل رکھتے۔

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعَالِينَ ۗ

وہ کہنے لگے جلا ڈالو اسکو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔

قُلْنَا يَا مَعْ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۗ

حکم دیا ہم نے اے آگ ہو جا سرد اور سلامتی والی ابراہیم پر۔

**AlHajj 22:26-27 Ibrahim is commanded to build House to worship Allah**

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۗ

اور جب مقرر کر دی ہم نے ابراہیم کے لئے جگہ اس گھر کی کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی چیز کو اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں بجا کرنے والوں کے لئے۔

اور اعلان کردو لوگوں میں حج کا کہ وہ آپس تمہاری طرف  
پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آتے ہوں جو تمام دور  
دراز ستوں سے۔

وَ اٰذِنٌ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا ۙ وَ عَلٰى  
كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيْقٍ ﴿١٧﴾

**AsSaffat 37:100-109 Ibrahim intends to sacrifice his son as a command from Allah**

میرے رب عطا فرما مجھے (اولاد) سعادت مندوں میں سے۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠٠﴾

تو بشارت دی ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی۔

فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠١﴾

سو جب وہ پہنچا اسکے ساتھ دوڑنے (کی عمر) تو کہا اس  
نے اے میرے پیٹے بیشک میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ  
میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو تو دیکھ کہ کیا ہے تیرا ارادہ۔ اس  
نے کہا اے میرے باپ کر دے وہ جسکا تجھ کو حکم ہوا تو مجھے  
پانے گا اگر چاہا اللہ نے صابروں میں۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِيْ اِتِّىْ اَرْمٰى فِي  
الْمَتَامِ اِتِّىْ اَذْبَحْكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ  
يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ  
الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٢﴾

پھر جب علم مان لیا دونوں نے اور لٹا دیا اس نے اسکو ماتھے  
کے بل۔

فَلَمَّا اَسْلَمَا وَ تَلَّهٖ لِجَبِيْنٍ ﴿١٠٣﴾

اور پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم۔

وَ نَادَيْنَاهُ اَنْ يَّابْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾

بیشک تو نے سچ کر دکھایا خواب۔ یقیناً ہم ایسا ہی بدلہ دیا  
کرتے ہیں نیکو کاروں کو۔

قَدْ صَدَقْتَ الرَّءِیْآ اِنَّا كَذَلِكْ نَجْزِی  
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾

بلاشبہ یہی تھی وہ کھلی آزمائش۔

اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْبَلٰٓءُ الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾

اور دیا ہم نے فدیہ میں اسکو ایک بڑا ذبیحہ۔

وَ فَدَيْنُهٗ بِذَبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾

اور باقی رکھا ہم نے اسکا ذکر بعد میں آئیوالوں میں۔

وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

سلام ہو ابراہیم پر۔

سَلَّمَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ﴿١٠٩﴾

